



سوال

(564) مرغی ذبح کرتے وقت اگر پوری گردن کٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مرغی ذبح کرتے وقت اگر پوری گردن کٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حلال یا حرام؟ (تمییز کم: حافظ عبدالوحید) (۲۳ نومبر ۲۰۰۰ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مرغی وغیرہ ذبح کرتے وقت اگر پوری گردن کٹ جائے تو پھر بھی حلال ہے۔ چنانچہ ”صحیح بخاری“ کے ترجمۃ الباب میں ہے:

’وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأُنْسٌ: إِذَا قَطَّعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ - (صحیح البخاری، باب الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ رَقْمِ الْحَدِيثِ: ۵۵۱۰)

”یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب جانور کی گردن کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔“ یعنی پھر بھی حلال ہے۔“

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 428

محدث فتویٰ